



## سوال

(458) ادویات میں الکل کا استعمال

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعض ادویات کے بنانے اور جڑی بوٹیوں کے مرکبات میں الکل بھی شامل کیا جاتا ہے لہذا اگر یہ معلوم ہو کہ کسی دوا میں الکل ڈالا گیا ہے تو کیا اسے استعمال کرنا جائز ہے خواہ وہ کسی مرض کے علاج کیلئے استعمال کی جا رہی ہو؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر الکل بہت معمولی مقدار میں ہو جو کہ دوا ہی گھل مل گئی ہو اور دوا کی حفاظت کیلئے ضروری ہو تو اس دوا کا استعمال کرنا جائز ہے اور اگر الکل کی مقدار زیادہ ہو اور وہ دوا کیلئے ضروری بھی نہ ہو تو پھر اس کا استعمال جائز نہیں خواہ علاج ہی کیلئے کیوں نہ ہو۔

حدا ما عنہدی واللہ اعلم بالصواب

## فتاویٰ اسلامیہ

ج 3 ص 412

محدث فتویٰ